



یورپی یونین



# ترقی کے عمل میں خواتین کا موثر کردار

## مقامی تنظیموں کی صنفی ترقی کے لئے تربیتی کتابچہ



IMPLEMENTING PARTNERS



TECHNICAL PARTNER



اعتراف:

اس کتابچہ کے بنانے کے عمل میں پی پی اے ایف کے کتابچہ (مقامی اداروں میں خواتین کی قیادت کا فروغ) اور شرکت گاہ کے کتابچہ (بنیادی تربیتی کورس برائے صنفی شعور) سے مدد حاصل کی گئی۔ آرائیں پی این، پی پی اے ایف اور شرکت گاہ کا مشکلور ہے۔

تیار کردہ: آر۔ ایس۔ پی۔ این

مرتب: صد ف ڈار

ڈیزائنگ: عبدالقادر

پرنسپر: ماشاء اللہ پر نظر، اسلام آباد

© 2019ء رول سپورٹ پروگرام نیٹ ورک (RSPN)، جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

Web: [eeas.europa.eu/delegations/pakistan\\_en](http://eeas.europa.eu/delegations/pakistan_en)

Facebook: European Union in Pakistan

Twitter: EUPakistan

یہ اشاعت یورپین یونین کی مالی معاونت سے دیہی معاون پروگرام نیٹ ورک (RSPN) نے  
مرتب کی ہے۔ اس اشاعت کے مودا کی گلی ذمداری دیہی معاون پروگرام نیٹ ورک (RSPN)  
کے سر ہے اور اسے کسی طرح سے بھی یورپین یونین کی آراء کا عکس گردانا نہیں جا سکتا۔



ترقی کے عمل میں خواتین کا موثر کردار  
مقامی تنظیموں کی صنفی ترقی کے لئے تربیتی کتابچہ

## فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	سیشن
06	تعارف	سیشن نمبر 1
17	صنف کیا ہے؟	سیشن نمبر 2
24	صنفی اعداد و شمار	سیشن نمبر 3
29	صنف اور ترقی	سیشن نمبر 4
30	صنف اور ترقی کے اصول	4.1
31	مقامی تنظیموں میں خواتین کا کردار	4.2
36	بلوچستان دیکھی ترقی و سماجی تقویت (BRACE) پروگرام میں جینڈر مین سٹریمنگ	4.3
37	صنف کے اہم تصور سے آگاہی	4.4
44	جنسی ہراسیت سے تحفظ کا قانون 2010 (ضابطہ اخلاق)	سیشن نمبر 5
47	صنف سے متعلقہ اصطلاحات کی فہرست	

## تربيت سے قبل انتظامات

### تربيت کيلئے شركاء کا انتخاب

تربيت کے لئے شركاء کا انتخاب ادارے کے متعلقہ تربیت کروانے والے سیکشن (HRD) یا صنف اور ترقی کے سیکشن (GAD) کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شركاء کی فہرست تیار کرے اور پھر شركاء کے متعلق بنیادی معلومات (Participations Profile) تیار کرے اور تمام شركاء کو کم از کم پانچ دن قبل تربیت کے لئے مخصوص دن، تاریخ اور اوقات سے آگاہ کرے، شركاء کا انتخاب کرتے وقت درج ذیل نکات کو منظر رکھنا چاہئے۔

☆ ایسے افراد کو منتخب کیا جائے جو تربیت سے سیکھنے کے عمل پر قابل ہوں

☆ ثبت سوچ کو حامل ہوں

☆ تنظیم ادارے کے ساتھ کام کرنے ہوئے صنف اور ترقی کے حوالے سے بنیادی تصورات سمجھنے کے خواہشمند ہوں

### تربيتی مواد کی تیاری

تربيت سے موثر نتائج کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ تربیتی مواد قبل از وقت تیار کیا جائے تاکہ دوران تربیت تمام ضروری اشیاء تربیتی ہال میں میسر ہوں اور تربیت کے دوران کوئی دشواری پیش نہ آئے۔

درج ذیل تربیتی مواد تربیت شروع کرنے سے کم از کم ایک گھنٹہ قبل ہال میں متعلقہ جگہ پر موجود ہونا چاہئے۔

☆ تربیتی شیڈول ☆ پرمانٹ مارکر

☆ واٹ بورڈ ☆ واٹ بورڈ مارکرز

☆ حاضری نامہ ☆ فلپ چارٹ

☆ جائز فارم ☆ کلر کارڈز

☆ سفید چارٹ ☆ بیچ مشین

☆ سٹپلر، سٹپلر پن ☆ گائیڈ بک برائے شركاء

## تربيت کا اعلان

تربيت کے لئے پرسکون کمرہ تربیت کرنا چاہئے تاکہ یہ دونی مداخلت کم سے کم ہو اور تربیتی عمل کے لئے سازگار ماحول بنایا جا سکے۔ کمرہ تربیت کھلا ہونا چاہئے جہاں پر نہ صرف تربیت کنندہ گان یا آسانی بیٹھ سکیں بلکہ گروہی مشقیں، بحث و مباحثہ اور دیگر تربیتی عملی کام میں سہولت رہے۔

## شرکاء کے بیٹھنے کا طریقہ کار

شرکاء کے بیٹھنے کے لئے یا تو فرش پر قالین اوری بچائی جاسکتی ہے اور یا کمرہ تربیت میں کرسیاں لگائی جاسکتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں تربیت دہنده یہ کوشش کرے کہ انہیں ”L“ کی شکل میں یا آدھے دائرے کی شکل میں بٹھائے۔ ایسی صورت میں تربیت دہنده شرکاء کا آسانی دیکھ سکتا ہے۔ ان کی باتوں کو غور سے سن سکتا ہے اور شرکاء کو بہتر انداز میں متوجہ کر سکتا ہے۔

## کھانے اور چائے کے لئے ہدایات

دوران تربیت چائے اور کھانے کا موزوں انتظام ہونا بھی ضروری ہے۔ دوران تربیت کھانے اور چائے کے انتظامات علیحدہ کسی شخص کے ذمہ ہوں۔ دوران تربیت چائے کا وقفہ 15 منٹ کا اور دو پھر کے کھانے اور نماز کا وقفہ ایک گھنٹہ کا ہوگا۔

## جانزہ اور جوابی تاثرات

دوسرے دن تربیت کے آغاز سے قبل گزشته دن جن موضوعات پر بات چیت ہوئی ان کا جائزہ لینا اشد ضروری ہے۔ اس سے گزشته دن کے موضوع کے ساتھ تعلق بنانے میں مدد ملتی ہے اور شرکاء کی طرف سے وضاحت طلب نکات سامنے آ جاتے ہیں اور سیشن میں شرکاء تربیت کو سمجھنے کے لئے مزید موقع مل جاتا ہے۔

## تربیت کے اختتام کے انتظامات

- ☆ تربیت کے اختتام پر حاضری شیٹ مکمل ہونے چاہئے
- ☆ تربیت کے اختتام پر تمام شرکاء جائزہ فارم کے مطابق تربیت کے متعلق اپنا فیڈ بیک دیں۔
- ☆ ٹریزش رکاء کی طرف سے مزید بہتری کے لئے آنے والی تجاویز پر غور کرے اور موزوں تجاویز کو اگلی تربیت کرواتے وقت مدنظر رکھے

## سیشن نمبر 1:

شرکاء اور تربیت دہنده کا تعارف، تربیت کے مقاصد، اصول و ضوابط، توقعات و خدشات

مقاصد: اس سیشن کے اختتام تک

- ☆ ٹرینر اور شرکاء ایک دوسرے سے آشنا ہو جائیں گے
- ☆ شرکاء کی شمولیت سے تربیت کے قواعد و ضوابط کر سکیں گے
- ☆ شرکاء تربیت سے وابستہ اپنی توقعات و خدشات کا اظہار کر سکیں گے

دورانیہ: 30 منٹ

تربیتی مواد: وائٹ بورڈ، چارٹ، وائٹ بورڈ مارکر، پرمانٹ مارکر، تھمب پن، فلیش کارڈ، ڈسٹر

## تربيت کے لئے سازگار ماحول کی تیاری (Fast Find)

درج ذیل میں دی گئی پر تحریر کے سامنے اپنے ساتھیوں سے دستخط کروائی اور یاد رہے اس ساتھی سے دستخط کروائیں جس کے لئے یہ تحریر صحیح ثابت ہوتی ہے۔ ایک ساتھی ایک مرتبہ ہی دستخط کر سکتا ہے جو سب سے پہلے مکمل کرے گا وہ فاتح قرار پائے گا۔

۱۔ میں نے دو سال سے زیادہ لوگوں کی ترقی کے لئے کام کیا ہے

---

۲۔ میں باقاعدگی سے ورزش کرتا / کرتی ہوں

---

۳۔ چکن پلاو مجھے بہت پسند ہے

---

۴۔ میں نے مورکونا پختے دیکھا ہے

---

۵۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا / بڑی ہوں

---

۶۔ میں شاعری لکھتا / لکھتی ہوں

---

۷۔ میں تین زبانیں بول سکتا / سکتی ہوں

نوٹ:

شرکاء کو آغاز میں ہدایات دینے وقت بتائیں کہ جیسے ہی ان میں سے کوئی ایک اپنی شیٹ پر دستخط مکمل کروالے وہ ٹریز کے پاس لے کر آئے اور ٹریز پھر باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے سرگرمی کا اختتام کرے اور شرکاء کو اپنی اپنی نشست پرواپس جانے کے لئے کہے۔

## شرکاء اور تربیت و ہندہ کا تعارف

- مقاصد: اس مرحلے کے اختتام تک شرکاء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ
- ☆ ایک دوسرے سے متعلق بنیادی معلومات حاصل کر سکیں
  - ☆ تربیت کے لئے سازگار ماحول بناسکیں

### طریقہ کار

#### پہلا مرحلہ

شرکاء تربیت کو خوش آمدید کہیں اور ان کی ٹریننگ میں شمولیت کو سراہتے ہوئے بتائیں کہ ان کی ٹریننگ میں شرکت، کار آمد گفت و شنید کا باعث بنے گی اور سب کو ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔

#### دوسرा مرحلہ

- شرکاء سے کہیں کہ وہ اپنا تعارف باری باری کروائیں۔ تعارف کے لئے درج ذیل سوالات وائٹ بورڈ پر تحریر کریں۔
- ☆ نام کیا ہے؟
  - ☆ آپ تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں؟
  - ☆ تنظیم میں آپ کا عہدہ کیا ہے؟
  - ☆ آپ اپنی کوئی خوبی بتائیں؟

#### تیسرا مرحلہ

ٹریز تعارف کے دوران باری باری تمام شرکاء کو موقع دے کہ وہ اوپر درج سوالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنا تعارف کروائیں۔

## ٹریننگ کے مقاصد

شرکاء کو ٹریننگ کے مقاصد بتائیں۔

- ☆ شرکاء کو صنف کے تصور سے متعارف کروانا
- ☆ صنف اور ترقی کے اصولوں کو سمجھنا
- ☆ ترقی کے عمل میں خواتین کی اہمیت کو سمجھنا
- ☆ خواتین کی شمولیت کو یقینی اور موثر بنانے کے لئے اہم تصورات سے آگاہی

## تربیت کا اچنڈا

سیشن	تعریف	عنوان	وقت
سیشن نمبر 1	خوش آمدیداً اور تلاوت	تعارف	30 منٹ
	تربیت کے مقاصد اور اچنڈا		
	قواعد و ضوابط		
	توقعات و خدشات		
	چائے کا وقفہ		30 منٹ
سیشن نمبر 2	صنف کیا ہے؟ (مردوں اور عورتوں کی خصوصیات - گروپ ایکسرسائز)	صنف کیا ہے؟ (مردوں اور عورتوں کی خصوصیات - گروپ ایکسرسائز)	30 منٹ
سیشن نمبر 3	صنفی اعداد و شمار		30 منٹ
سیشن نمبر 4	صنف اور ترقی		
4.1	صنف اور ترقی کے اصول		10 منٹ
	وقفہ برائے طعام و نماز		60 منٹ
4.2	مقامی تنظیموں میں خواتین کا کردار (گروپ ورک)		30 منٹ
4.3	بلوچستان دیہی ترقی و سماجی تقویت (BRACE) پروگرام میں جینڈر مین سٹریمنگ		30 منٹ
4.3	صنف کے اہم تصورات سے آگاہی (ترقی اور شمولیت، رسائی اور اختیار، حالت اور حیثیت اور برابری اور انصاف)		60 منٹ
سیشن نمبر 5	جنی حراسیت سے تحفظ کا قانون 2010 (ضابطاً اخلاق)		30 منٹ
	ورکشاپ کا جائزہ اور فیڈ بیک		15 منٹ
	اختمام تقریب		15 منٹ

## تربيت کے قواعد و ضوابط

مقاصد: سرگرمی کے اختتام تک شرکاء

☆ تربیت کے لئے اتفاق رائے سے قواعد و ضوابط طے کر سکیں

☆ طے شدہ قواعد پر عمل درآمد کے لئے تیار ہوں

طریقہ کار

پہلا مرحلہ

سرگرمی کے آغاز میں شرکاء کو تربیت کے قواعد و ضوابط کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں آگاہ کریں۔

دوسرा مرحلہ

شرکاء کی رائے لیں کہ ان کے خیال میں تربیت کے دوران نظم و ضبط قائم رکھنے کے لئے کیا قواعد و ضوابط ہونے چاہئیں۔

تیسرا مرحلہ

شرکاء کے بتائے قواعد و ضوابط کو ایک چارٹ پر درج کر کے کمرہ تربیت میں آویزاں کریں۔

چوتھا مرحلہ

شرکاء پر زور دیں کہ یہ قواعد و ضوابط مل کر تجویز کئے گئے ہیں تو یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی یاد دہانی کروائیں۔

## تربيت کے قواعد و ضوابط

چند قواعد و ضوابط جو دار رہ عمل میں آنے چاہئیں وہ درج ذیل ہیں۔

☆ موبائل فون بند کر دیں یا اس کو خاموشی کی حالت میں رکھیں

☆ ایک وقت میں ایک فرد بات کرے اور ہر ایک کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے

☆ وقت کی پابندی کریں

☆ تربیتی ہال سے غیر ضروری آنے جانے سے گریز کریں

### نوٹ:

یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ شرکاء تربیت قواعد و ضوابط خود ترتیب دیں اس طرح کرنے سے تربیت اس کی پیروی بھی کریں گے کیونکہ انہوں نے خود یہ قواعد وضع کئے ہیں۔ اگر کوئی اہم قواعد کا شرکاء ذکر نہ کریں تو ٹریز اپنے طور پر تجویز کر سکتا / سکتی ہے۔

## وقعات و خدشات

متاصلہ: سرگرمی کے اختتام پر

- ☆ شرکاء کی تربیت کے بارے میں ممکنہ توقعات اور خدشات معلوم ہو جائیں گے
- ☆ تربیت سے متعلق ممکنہ توقعات و خدشات پر فصیلی بات چیت ہوگی

### طریقہ کار

#### پہلا مرحلہ

شرکاء تربیت سے پوچھیں کہ آپ کی اس تربیت سے کیا توقعات وابستہ ہیں؟ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا آپ کے ذہن میں کسی طرح کے کوئی خدشات ہیں جن کا تعلق اس تربیت یا تربیتی ماحول سے ہے۔ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟

#### دوسرा مرحلہ

شرکاء کو پیلے اور نیلے رنگ کے کارڈ دکھاتے ہوئے بتائیں کہ پیلے رنگ کے کارڈ پر وہ تربیت سے متعلق توقعات لکھیں اور نیلے رنگ کے کارڈ پر تربیت سے متعلق خدشات تحریر کریں۔

#### تیسرا مرحلہ

جب شرکاء اپنی توقعات و خدشات لکھ لیں تو دیوار پر ماسنگ ٹیپ لگا کر یا بورڈ پر تھمب پن کی مدد سے چسپاں کریں اور چسپاں کرتے وقت یہ امر ملحوظ خاطر رکھیں کہ ایک جیسی توقعات اور اسی طرح ملتے جلتے خدشات کو اکٹھا چسپاں کریں۔

### چوتھا مرحلہ

بھرپور کاروباری پر یادیوار پر جہاں توقعات و خدشات چسپاں ہیں وہاں پر تشریف لے آئیں اور تمام توقعات و خدشات کو ٹریز باری باری پڑھے اور اس کے مطابق مناسب حل بتائے۔

### پانچواں مرحلہ

توقعات کو تربیت کے مقاصد کے ساتھ مسلک کر کے پیش کریں۔ اگر کوئی توقع تربیت کے مقاصد سے مختلف ہے تو انہیں بتائیں کہ آپ کی توقع اس تربیت کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ ممکن ہے کہ یہ کسی اور تربیت میں پوری ہو۔

### نوٹ:

اس سرگرمی کو کرنے کے لئے تمام شرکاء کو پرمانٹ مارک اور دورنگ کے فلیش کارڈ فراہم کئے جائیں اور انہیں ہدایت کی جائی کہ وہ توقعات اور خدشات کو نمایاں کر کے لکھیں تاکہ بآسانی پڑھا جاسکے۔

## صنfi بر ابری کے تربیتی کتابچہ کا لپس منظر اور دلیل

صنfi بر ابری کے تصور کو عام کرنے کا بنیادی مقصد خواتین کی موجودگی، شناخت، قابلیت، نقل و حرکت میں آسانی اور رابطہ سازی میں سہولت دینا اور یقینی بنانا ہے۔

زیادہ سے زیادہ تعداد میں خواتین کو کمیونٹی کی سہولت کا بنا، خواتین میں قیادت اور رابطہ کاری کی مہار تیں پیدا کرنے اور مردوں کو صنfi تربیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ تمام بڑی تقریات (ایونٹس) میں عورتیں شامل ہوں اور پھوٹ کی دیکھ بھال کی سہولیات کے لیے بجٹ مخفض کیا جائے، میئنگز اور دیگر سرگرمیوں میں عورتوں کی عدم شرکت کو ہرگز گوارانہ کیا جائے۔

کمیونٹی کے اداروں میں صلاحیت پیدا کی جائے کہ خواتین کی سربراہی میں چلنے والے غریب گھرانوں کو جانچیں، درپیش مسائل اور موجودہ ذمہ داریوں کی فہرست بنائیں اور اس قسم کے کنبوں کو غربت سے نکالنے کے لیے پائیدلا اقدامات تجویز کریں۔

یقینی بنایا جائے کہ ایل۔ اس۔ او۔ پلینز میں صنfi نابر ابری کے مسائل کی نشاندہی کرے اور خواتین / پھوٹ کے خلاف امتیازی سلوک (وسائل تک رسائی اور کنٹرول کے حوالے سے)، ہر انسانی، تشدد اور محرومی کے چیلنجوں کو بھی اجاگر کرے۔

ایسے طریقے وضع کرنا جوان پڑھ یا کم خواندہ خواتین اور پھوٹ کو اپنے ما پی، حال اور مستقبل کو سمجھنے اور بیان کرنے کے قابل بنائیں اور وہ اپنی سماجی۔ اقتصادی ترقی میں فعال کردار کا مطالبہ کریں۔

اسی مہار تیں متعارف کروائی جائیں جو خواتین / لڑکیوں کو سماجی۔ اقتصادی ترقی کے مرکزی دھارے میں لاائیں اور زنانہ کاموں اور قابلیت کے حوالے سے فرسودہ تصورات کو بھی چیلنج کریں! مردو خواتین دونوں کو زندگی گزارنے کی مہار تیں سکھائی جائیں تاکہ سوچ میں تبدیلی آئے۔ خواتین کو کاروبارہ کی تربیت دی جائے تاکہ ہن میں ایسے ماؤں تیار کر سکیں جہاں خواتین نہ صرف پیداوار بلکہ سیلز اور مارکیٹنگ میں بھی فعال کردار ادا کرتی ہوں۔ خواتین کو صرف وسائل تک پہنچنے کی نہیں بلکہ ان پر کنٹرول کی بھی تحریک دلائی جائے۔

خواتین کو قائدانہ مہار تیں پیدا کرنے پر مائل کیا جائے گا تاکہ متعلقہ فریقین اور شعبے کے بار سون خ افراد کے ساتھ معاملات طے کر سکیں۔

6

صفی برادری کے تصور کو عام کرنے کے حوالے سے تربیت تمام پارٹنر تنظیموں کے منتخب سٹاف اور ایسے CRPs کو دی جائے گی جو اہلیت کے معیار پر پورا اتریں۔ بعد ازاں کمیونٹی کے اداروں کے ارکان کو تربیت دیں گے۔

7

## سیشن نمبر 2

صنف کیا ہے؟

(مردوں اور عورتوں کی خصوصیات، عدم مساوات کا آئس برگ، صنف اور اسلام)

مقاصد:

شرکاء اس سیشن کے اختتام تک

☆ صنف کے بنیادی تصور کو بھروسکیں گے

☆ صنفی سماجی عدم مساوات سے بخوبی آگاہ ہو سکیں گے

☆ معاشرتی روایات اور ان کے مردوں اور عورتوں کی زندگی پر اثرات کے پیچیدہ عمل کو جان سکیں گے

☆ اسلام میں عورت اور مرد کے مقام سے آگاہ ہو سکیں گے

☆ صنف اسلام کی روشنی میں

دورانیہ: 30 منٹ

ترینی مواد: وائٹ بورڈ، چارٹ، وائٹ بورڈ مارکر، پرمانٹ مارکر، تھہب پن، فلیش کارڈ، ڈسٹر، تصاویر

## طریقہ کار

### پہلا مرحلہ

شرکاء سے کہیں کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر تربیتی گروپ میں اس طرح سے تقسیم ہوں کہ مرد ایک گروپ میں اور عورتیں دوسرے گروپ میں ہوں گی۔

### دوسرा مرحلہ

نیلے فلیش کا رڈ پر 'عورت' لکھ کر واٹ بورڈ کے ایک حصے پر چسپاں کریں اور پیلے کا رڈ کے اوپر مرد لکھ کر واٹ بورڈ کے دوسرے حصے پر چپکا دیں اور دونوں گروپ کو ہدایت دیں کہ وہ قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ مردوں کا گروپ جس طرف بورڈ 'عورتیں' لکھا ہو گا اس طرف قطار بنائے گا جبکہ عورتوں کا گروپ جس طرف 'مرد' لکھا ہو گا اس طرف قطار بنائے گا۔

### تیسرا مرحلہ

شرکاء کو ہدایت دیں کہ وہ بورڈ کے اوپر مردوں اور عورتوں کی سماجی خصوصیات (جیسا کہ مرد طاقتور اور عورتیں بزدل سمجھی جاتی ہیں) اور اقتصادی خصوصیات (جیسا کہ مرد گھرانے کے لئے روزی کا ذمہ دار اور عورت دوسروں پر انحصار کرتی ہے) اور حیاتیاتی خصوصیات (مثلاً مردوں کی داڑھی ہونا اور عورت کا بچے کو جنم دینا) تحریر کریں۔ مردوں کا گروپ عورتوں کی اور عورتوں کا گروپ مردوں کی خصوصیات تحریر کریں۔ شرکاء کو ہدایت دیں کہ وہ خصوصیات صرف لفظوں کی صورت میں تحریر کریں جیسا کہ بہادر، کمزور، خوبصورت وغیرہ اور جملے لکھنے سے پرہیز کریں۔ خصوصیات تحریر کرنے کے لئے دونوں گروپوں کے پاس 10 منٹ کا وقت ہو گا۔ خصوصیات لکھنے وقت قطار میں جو گروپ کا ممبر سب سے آگے ہو گا وہ لکھ کر مار کر پیچھے کھڑے ساتھی کو دے گا اور خود قطار کے آخر میں چلا جائے گا۔ اسی طرح گروپ کے ہر ممبر کو بورڈ پر لکھنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ سب تیسرا مرحلے میں آتا ہے اس کا Box اسی طرح سے بنائیں۔

## چوتھا مرحلہ

سرگرمی کا وقت ختم ہونے پر شرکاء کو اپنی نشست پر جانے کے لئے کہیں اور بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی خصوصیات کو ایک بار پڑھیں اور نمبر دیتے ہوئے تحریر کریں کہ کس گروپ نے زیادہ خصوصیات تحریر کی ہیں۔

## پانچواں مرحلہ

شرکاء کی رائے لینے کے بعد بورڈ پر چسپاں 'مرد' اور 'عورت'، تحریر کے کر جو فلیش کارڈز لگائے تھے ان کو اس طرح سے آپس میں تبدیل کریں کہ جہاں پہلے 'مرد' لکھا تھا وہاں 'عورت' اور 'عورت' کی جگہ 'مرد' والا فلیش کارڈ لگائیں اور ایسا کرتے ہوئے با آواز بلند شرکاء سے کہیں کہ اب ہم 'مرد' اور 'عورت' کے فلیش کارڈ کو تبدیل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اب صورتحال کیا ہے؟

## چھٹا مرحلہ



اب دونوں گروپوں کی تحریر کردہ خصوصیات کو ایک ایک کر کے پوچھیں اور عورتوں کی خصوصیات پڑھتے ہوئے پوچھیں کہ کیا 'مرد' میں بھی ہو سکتی ہے؟ - مثلاً اگر خصوصیات 'کمزور' تحریر کی ہے تو پوچھیں کہ کیا مرد بھی کمزور ہو سکتا ہے اسی طرح مردوں کی خصوصیات پڑھتے ہوئے ہر بار سوال پوچھیں کہ کیا یہ خصوصیت خواتین میں بھی ہو سکتی ہے؟

## ساتواں مرحلہ

شرکاء سے پوچھیں کہ آپ اس مشق سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں کیا خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ ٹریزگروپ کو واضح کرے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیاں حیاتیاتی فرق ہوتا ہے جیسا کہ

عورت کا بچے کو جنم دینا وغیرہ لیکن سماجی اور اقتصادی خصوصیات مرد و عورت کے حوالے سے ہمارے معاشرے کی طرف سے تشکیل کردہ ہیں۔ اس نظرے پر جنس اور صنف کے درمیان فرق کیوضاحت کریں۔



1۔ جنس، حیاتیاتی معین کردہ فرق جو کہ قدرتی طور پر ہوتا ہے جبکہ صنف معاشرے کی طرف سے مردوں اور عورتوں کے ساتھ وابستہ خصوصیات ہیں۔ معاشرہ بتاتا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مرد کیا کر سکتا ہے اور عورت کیا کر سکتی ہے؟ اسی بنیاد پر مردوں اور عورتوں کے درمیان تعلیم، صحبت اور روزگار کے موقع تک رسائی میں فرق ہوتا ہے

2۔ صنفی کردار میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ممکن ہوتی ہے جبکہ جنسی تفرقات تبدیل نہیں ہوتے۔  
3۔ صنفی رشتہ معاشرے میں معاشی، قانونی، سیاسی ماہولیاتی اور معاشرتی حالات کی وجہ سے بدلتے ہیں۔ یہ نسل در نسل بھی تبدیل ہوتے ہیں۔

### آٹھواں مرحلہ

شرکاء سے سوال کریں کہ معاشرے میں یہ پیغامات کہاں سے وصول ہوتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کو کن خصوصیات کی حامل ہونا چاہئے؟ اس کے جوابات میں خاندان، سکول، رشتہ دار، کمیونٹی اور معاشرے کی طرف سے ملنے والی پیغامات شامل ہوں گے جو شرکاء اپنے تجربات کی روشنی میں مثالیں دے کر مزید واضح کر سکتے ہیں۔

## ہینڈ آوٹ 2 - صنف کا تصور

- فطرت زیماں دہ کو پیدا کرتی ہے جبکہ معاشرے انھیں مرد یا عورت میں تبدیل کرتا ہے۔
- صنف سے مراد وہ سماجی، ثقافتی اور نسلی طور طریقے ہیں جو مخصوص سماجی تناظر میں مردوں اور عورتوں کے ساتھ منسلک ہو گئے۔
- ہماری صنفی شناخت تعین کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح دیکھا جائے گا، اور معاشرتی تنظیم کی وجہ سے مرد اور عورت کے طور پر ہم سے کیا توقعات اور خیالات وابستہ کیے جائیں گے۔
- صنفی کردار ہم پیدائش کے بعد سیکھتے ہیں اور وہ الدین، اسناد، عزیز واقارب اور معاشرہ انھیں پختہ بناتا ہے۔ ان صنفی کرداروں کی بنیاد ہماری معاشرے ساخت پر ہوتی ہے اور یہ عمر، طبقہ اور نسلی گروپ کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔
- صنف سے مراد وہ سماجی خصوصیات اور موقع ہیں جو زیماں دہ سے منسوب ہو گئے اور مردوں خواتین اور لڑکوں لڑکیوں کے درمیان تعلقات بھی اس کا منبع ہیں۔

صنف سے کیا مراد ہے؟



## جنس اور صنف میں فرق



صنف

- ہر معاشرے میں مختلف (شہری / دیہی، ترقی یافتہ / پسمندہ، زرعی / صنعتی، وغیرہ)
- متغیر
- معاشرتی ذرائع سے سیکھی ہوئی
- معاشرتی طور پر بنتی ہے



جنس

- ہمہ گیر (تمام جگہوں پر ایک جیسی)
- غیر متغیر (تبدیل نہ ہونے والی)
- طے شدہ
- حیاتیاتی طور پر متعین کردہ

صنفی کردار:

3



عمر، طبقہ، نسل، مذہب اور دیگر نظریات، جغرافیائی حالات، اقتصادی ماہول اور سماجی حالات صنفی کرداروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

2



مختلف حالات اور اوقات میں صنفی کردار خاص تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔

1



کسی معاشرے / کمیونٹی یا دوسرے سماجی گروپ میں صنفی کردار اور معاشرتی ذرائع سے سیکھے ہوئے روئیے صنفی کردار ہیں جو تعین کرتے ہیں کہ کوئی سرگرمیاں، کام اور ذمہ داریاں عورت یا مرد سے منسوب ہوں گے۔

مردو خواتین کے لیے سرگرمیوں کی  
تین مختلف اقسام یہ ہیں: پیداواری،  
تولیدی، کمیونٹی کی۔

عموماً اس کا تعلق معاوضے کی نہایت  
غیر منصفانہ تقسیم کے ساتھ ہوتا ہے۔  
مثلاً بہت سے معاشرے خواتین سے  
تو قع کرتے ہیں کہ وہ بلا معاوضہ گھریلو  
کام اور کھانے پکانے کا کام کریں گی،  
جبکہ مرد نقد آور فصلوں کی پیداوار اور  
اجر تی کاموں میں غالب ہیں۔

صنفی بنیادوں پر تقسیمِ محنت سے مراد وہ  
طریقہ ہے جس کے تحت معاشرہ  
خواتین کو ایک طرح کے اور مردوں کو  
دوسری طرح کے کردار (صنف کی بنیاد  
پر) تفویض کرتا ہے۔

ان پیداواری سرگرمیوں میں مرد اور خواتین دونوں شامل  
ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر ان کے کام اور ذمہ داریاں صنفی  
بنیادوں پر تقسیمِ محنت کے مطابق مختلف ہوں گی۔

پیداواری سرگرمیوں سے مراد وہ سرگرمیاں ہیں جو  
استعمال اور تجارت کے لیے اشیاء و خدمات پیدا کرتی ہیں۔  
مثلاً کھیتوں، فیکٹریوں، دفاتر میں کیا جانے والا کام۔

### صنفی اعداد و شمار

مقاصد: اس سیشن کے اختتام تک

☆ شرکاء ملک میں خواتین سے متعلق حفائق سے آگاہ ہوں گے

دورانیہ: 30 منٹ

تریبیتی مواد: وائٹ بورڈ، چارٹ، وائٹ بورڈ مارکر، پرمانٹ مارکر، تھمب پن، فلیش کارڈ، ڈسٹر، تصاویر

### مرحلہ نمبر 1

ٹریزیز نیچے دیئے گئے اعداد و شمار دکھائیں اور ہر ایک نقطے پر وضاحت کریں۔

☆ پاکستان میں 49% آبادی خواتین کی ہے اور 51% آبادی مردوں پر مشتمل ہے

☆ بلوچستان میں خواتین کی آبادی 47% ہے اور مردوں کی آبادی 53% ہے۔ ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ

پاکستان کی آبادی میں مردوں کی تعداد زیاد ہے جبکہ فطری طور پر اگر مرد اور عورت خوراک اور صحت کی کیساں سہولیات سے مستفید ہوں تو عورتوں کی تعداد زیاد ہونی چاہئے۔




☆ پاکستان میں خواتین کی شرح خواندگی 49% اور مردوں کی شرح خواندگی 67% ہے۔


☆ بلوچستان میں خواتین کی شرح خواندگی 24% اور مردوں کی شرح خواندگی 56% ہے۔ اور دیہی علاقوں میں خواتین کی شرح خواندگی صرف 15% ہے۔



تریبیٹ یا نتہ ڈاکٹر، نس سیا  
لیڈی ہیلتھ وزیر کا انتخاب کریں



زچگی کے لئے ہسپتال کا انتخاب کریں



مناسب سواری کا انتظام کریں



پیسوں کا انتظام کریں



صف زچگی کی کٹ کا انتظام کریں



صف خون کا انتظام کریں



☆ پاکستان میں عورتوں کی زچگی کے دوران شرح اموات فی  
ایک لاکھ میں سے 276 ہے۔

☆ بلوچستان میں عورتوں کی زچگی کے دوران شرح اموات  
فی ایک لاکھ میں سے 785 ہے۔ ان اعداد و شمار کے  
مطابق ہر 40 منٹ کے بعد زچگی کے دوران فوت ہوں  
جاتی ہیں۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے ایک دن میں  
36 خواتین زچہ کیلئے غیر موزوں سہولیات کی وجہ سے  
زندگی سے ہاتھ دھون ٹھتی ہیں۔ ایسی حالت میں پہلی تا خیر  
گھر کی سطح پر فیصلہ کرنے میں ہوتی ہے کہ زچہ کو ہسپتال  
لے کر جانا چاہئے یا نہیں۔ دوسرا تا خیر ہسپتال تک  
پہنچنے کیلئے درکار وسائل، ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہوتی ہے  
اور تیسرا تا خیر ہسپتال میں پہنچ کر ڈاکٹر، عملے اور دیگر طبی  
سہولیات سے ہوتی ہے۔

☆ موجودہ جمہوری نظام میں قانون سازی کے عمل میں  
خواتین کی شمولیت اور موجودگی ملکی سطح پر 20% قومی  
اسٹبلی میں ہے۔ جبکہ بلوچستان کی صوبائی اسٹبلی میں  
خواتین کی تعداد کی شرح 7.5% ہے جبکہ گرچہ خواتین  
کی آبادی کی مناسبت سے انہائی درجہ کم ہے مگر پھر بھی  
کسی نہ کسی لحاظ سے موجودگی ظاہر کرتی ہے۔

<https://tribune.com.pk/story/1419396/economic-survey-literacy-rate-pakistan-slips-2/>. (2016-2017)

[http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/pslm/publications/PSLM\\_2014-15\\_National-Provincial-District\\_report.pdf](http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/pslm/publications/PSLM_2014-15_National-Provincial-District_report.pdf)

[http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/pslm/publications/PSLM\\_2014-15\\_National-Provincial-District\\_report.pdf](http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/pslm/publications/PSLM_2014-15_National-Provincial-District_report.pdf)

<https://academiamag.com/wp-content/uploads/2018/08/Pakistan-Education-Statistics-2015-16.pdf>

مرحلہ 2:

- تمام شرکا کو تین چھوٹے گروپس میں تقسیم کریں۔
- ہر ایک گروپ سے کہیں کہ وہ نصف گھنٹے تک آپس میں بات چیت کریں اور 10 منٹ میں پریزنسٹیشن کی تیاری کریں۔ ان سے کہیں کہ مجموعی گروپ کو پریزنسٹیشن دینے کے لیے ایک نمائندہ منتخب کریں۔
- تینوں گروپس کو حسب ذیل انداز میں گروپ و رک دیں:

گروپ اے

### عورتوں کے کام (صبح سے رات تک)

نوعیت (گھریلو کام، کمیونٹی کے کام، معاوضے والے کام)	سرگرمی	وقت

### مردوں کے کام (صبح سے رات تک)

نوعیت (گھریلو کام، کمیونٹی کے کام، معاوضے والے کام)	سرگرمی	وقت

گروپ بی

بلوچستان میں عورتوں کی شرح اموات پاکستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں بلند ہے۔ ہر ایک لاکھ میں سے تقریباً 785 عورتیں حمل کے دوران اپنی زندگی ہار بیٹھتی ہیں جبکہ بقیہ ملک میں یہ شرح 272 ہے۔ اس صورت حال کی مرکزی وجہات کی نشاندہی کریں۔

بلوچستان میں 14 فیصد لڑکیاں جبکہ 23 فیصد لڑکے سینئری سکولوں میں داخلہ لیتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں داخلہ لینے والی لڑکیوں کی تعداد بھی شہری علاقوں کے مقابلے میں کم ہے۔ دیہی علاقوں میں لڑکیوں کے داخلے کی شرح 51 فیصد جبکہ دیہی علاقوں میں صرف 35 فیصد ہے۔ اس صورت حال کی مرکزی وجوہات کی نشاندہی کریں۔

مرحلہ 3:

- ہر گروپ کو پریزنسٹیشن دینے کے لیے دس منٹ دیں۔ ہر ایک پریزنسٹیشن کے آخر میں مندرجہ ذیل اہم نکات پیش کریں:

گروپ ورک	اجاگر کرنے کے لیے اہم نکات
<p>گروپ اے: مرد و خواتین کا روزمرہ معمول</p> <p>- خواتین بہت سے کام کرتی اور زیادہ وقت مصروف گزارتی ہیں۔ ان کے کام کو تسلیم کرنے اور اسے قدر دینے کی ضرورت ہے۔</p> <p>- خواتین بیک وقت متعدد کام کرتی ہیں، اگر وہ گھر کا کام نہ کریں تو مرد اپنے فرائض ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔</p> <p>- خواتین کو ترقیاتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے توجہ، وقت اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔</p> <p>- خواتین اور مردوں کا کام تعین کرتا ہے کہ معاشرے میں کیسے عمل کرنا اور سوچنا ہے۔ مثلاً اگر بیٹی کی ذمہ داری خاندان کے لیے روزی کمانا ہے تو خاندان اُس کی تعلیم اور دیگر مواقع پر سرمایہ کاری کرے گا۔</p> <p>- CO، LSO، VO اور کائن کو چاہیے کہ اپنے خواتین کو ترقیاتی کام میں شریک ہونے پر حوصلہ افزائی کریں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ وہ ان کا بوجھ بانٹیں اور میئنگز ایسے وقت اور جگہ پر رکھیں جو خواتین کے لیے موزوں ترین ہوں۔</p>	

اجاگر کرنے کے لیے اہم نکات	گروپ ورک
<ul style="list-style-type: none"> <li>- خواتین کی صحت کی ضروریات مردوں سے مختلف ہیں۔</li> <li>- خواتین کی صحت میں صنف ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چھوٹی عمر کی شادی، تعلیم کا فقدان، بیٹوں کو ترجیح، ہسپتالوں میں زنانہ عملہ نہ ہونا، آنے جانے میں مشکلات اور سماجی و ثقافتی اقدار خواتین کی خراب صحت کی مرکزی وجہات ہیں۔</li> </ul>	<p><b>گروپ بلی:</b> ماں کی بلند شرح اموات کے مرکزی اسباب</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تعلیم خواتین کا بنیادی آئینی حق ہے، لیکن خواتین کی اکثریت تعلیم حاصل نہیں کرتی، جیسا کہ پرینز نیشن میں بتایا گیا ہے۔</li> <li>- صنف ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سماجی و ثقافتی اقدار، بیٹے کو ترجیح، چھوٹی عمر میں شادی، سکولوں کا فقدان، آنے جانے میں مسائل وغیرہ لڑکیوں کی تعلیم کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔</li> </ul>	<p><b>گروپ سی:</b> سکولوں میں لڑکیوں کے داخلوں کی کم شرح کی وجہات</p>
<p>خواتین کی حیثیت اور صورت حال میں تبدیلی سے تمام سطحیوں پر فائدہ ہو گا، بشمول خاندان، کمیونٹی اور ملکی سطح۔ چنانچہ ہر سطح پر سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔</p>	<p><b>مجموعی پیغام</b></p>

## صنف اور ترقی

مقاصد: اس سیشن کے اختتام تک

- ☆ شرکاء ترقی کے عمل میں خواتین کی شمولیت کی اہمیت سے آگاہ ہوں گے
- ☆ شرکاء مقامی اداروں میں خواتین کے موثر کردار سے آگاہی حاصل کریں گے
- ☆ مقامی تنظیموں میں جیندر مین سٹریمینگ کے طریقے جان سکے گے

دورانیہ: 100 منٹ

ترمیتی مواد: وائٹ بورڈ، چارٹ، وائٹ بورڈ مارکر، پرمانٹ مارکر، تھمب پن، فلیش کارڈ، ڈسٹر، تصاویر

#### 4.1- صنف اور ترقی کے اصول (10 منٹ)

معاشرتی طرز عمل، خیالات، اقدار، تصورات اور رشتہ وضع کرنے میں معاشرے کے اہم انسٹی ٹیوشنز جیسا کہ خاندان، سکول، حکومت اور عوامی ادارے نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ انسٹی ٹیوشنز واضح کرتے ہیں کہ کس کی اہمیت زیادہ ہے اور وسائل کا تناسب کیا ہونا چاہیے اور کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ معاشرے میں کس کے حصے میں کیا آتا ہے؟ نتیجہ کے طور پر یہ معاشرتی طرز عمل معاشرے میں بسنے والے تمام افراد کے معیار زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔

صنfi وسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسا لائچہ عمل تیار کرنا جو کہ معاشرے میں صنfi برابری کو فروغ اور صنfi برابری کے حصول کے لئے ہر سطح پر ذمہ داریاں عائد کرے۔ صنfi حوالے سے عورتوں اور مردوں کے مابین ذمہ داریاں، وسائل اور سہولیات کی منصفانہ تقسیم ایک اچھا خوشحال نظام قائم کیا جاسکتا ہے۔ اس نظام میں معاشرے میں بسنے والے تمام مرد اور عورت شہریوں کی شمولیت سے ہی منصفانہ نظام اور ترقی کے کاموں سے مستفید ہونے والوں میں عورتوں اور مردوں کو برابر شامل کیا جاسکتا ہے۔


مردوں اور عورتوں کے گھر کی دیکھ بھال کے کام، پیداواری کام اور کمیونٹی کے کاموں کو پہچانا اور اہمیت دینا ☆

فائدہ حاصل کرنے والوں کو صنfi بنیاد پر الگ الگ دیکھنا، تاکہ مردوں اور عورتوں کی مختلف ضروریات اور ترجیحات ☆

کو واضح طور پر سمجھا جاسکے

مرد اور عورتوں کو محرك، ذی عقل اور ذی شعور سمجھنا ☆

تمام شعبوں اور سطحوں پر ترقی کے لئے دونوں مرد اور عورتوں کی ضروریات اور ترجیحات کو مدنظر رکھ کر پلانگ کرنا۔ ☆



## 4.2۔ مقامی تنظیموں میں خواتین کا کردار (گروپ ورک) (30 منٹ)

مقاصد: اس سیشن کے اختتام تک

- ☆ شرکاء مقامی تنظیموں میں خواتین کی شمولیت کی اہمیت سے آگاہ ہوں گے
- ☆ شرکاء مقامی تنظیموں میں خواتین کے موثر کردار سے آگاہی حاصل کریں گے

دورانیہ: ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ

تریکی موارد: وائٹ بورڈ، چارٹ، وائٹ بورڈ مارکر، پرمانٹ مارکر، تھمب پن، فلیش کارڈ، ڈسٹر، تصاویر

سماجی تبدیلی کے کارکنوں کے لیے چیک لسٹ (ضروری باتوں کی فہرست):

ترقیاتی کارکنوں کو ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ:

3	2	1
کیا وہ فیصلہ سازی کے عمل میں شریک ہیں؟ کیسے؟	کیا خواتین واقعی حصہ لے رہی ہیں؟ کیسے؟	تنظیموں / پرو جیکٹس میں خواتین کی شمولیت مردوں کی نسبت کم کیوں ہے؟
6	5	4
کیا پرو جیکٹس کی بدولت خواتین کی صلاحیت اور مہارتوں میں اضافہ ہوتا ہے؟	کیا خواتین آواز اٹھاتی ہیں؟ وہ اپنے خیالات اور تجربات بتاتی ہیں؟	
7	کیا پرو جیکٹس خواتین اور اٹر کیوں کی حیثیت بہتر بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں؟	

## خواتین کی شمولیت اور اختیار کے بارے میں گروپ ورک

ہدایات برائے سہولت کار:

مرحلہ 1:

- شرکا کو چھوٹے گروپوں میں تقسیم کریں۔
- ہر گروپ کو ہینڈ آوٹ نمبر 4 میں سے ایک کیس سٹڈی (مثال) پڑھنے کو دیں۔
- ہر ایک گروپ کو گروپ ورک کی تیاری کے لیے پندرہ منٹ دیں۔
- شرکا سے کہیں کہ ضمنی گروپوں کے ایک ایک رکن کو گروپ ورک میں لیں اور تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں۔

مرحلہ 2:

- ہر ایک ضمنی گروپ سے پریزنسٹیشن کرنے کا کہیں۔
- شرکا سے کہیں کہ وہ پریزنسٹیشن غور سے دیکھیں اور خواتین کی شمولیت اور اختیار کے حوالے سے ثبت اور کمزور نکات نوٹ کر لیں۔

مرحلہ 3:

- مجموعی گروپ میں پریزنسٹیشن پر بحث کریں اور درج ذیل پہلوؤں پر بات کریں:
  - ا. آپ نے پریزنسٹیشن میں خواتین کی شمولیت اور اختیار کے حوالے سے کیا ثبت پہلو / حکمت عملیاں نوٹ کیں؟
  - اا. خواتین کی شمولیت کے کونسے پہلو گروپ نے نظر انداز کیے؟
  - ااا. پریزنسٹیشن میں مزید کیا شامل کیا جا سکتا تھا؟
  - اااا. مرکزی نکات کا خلاصہ پیش کریں۔

.V

- ہر ضمنی گروپ کے لیے اوپر بیان کردہ عمل دو ہرائیں۔

## ہینڈ آوٹ 4- کیس سٹڈریز (مثالیں)

نوت: سہولت کا گروپ ورک کے لیے نیچے دی گئی مثالوں میں سے انتخاب کر سکتی / سکتا یا ان میں روبدل کر کے اپنے سامعین کے مطابق بناسکتی / سکتا ہے:

پہلی مثال:

ایک مرد LSO بلوچستان کے علاقے میں گزشتہ ایک سال سے کام کر رہا ہے۔ LSO کے صدر اور سیکرٹری نے محسوس کیا کہ مرد اداکاریں برادر است خواتین کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے، لہذا وہ خواتین کی ضروریات کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے LSO میں خواتین کو شریک کرنے کے لیے ایک میئنگ بلائی۔

بحث کریں کہ LSO میں خواتین کو شریک کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہئیں۔

دوسری مثال:

سویراڈولپمنٹ آر گنائزیشن خبیر پختونخوا اور بلوچستان کے دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کی سہولیات بہتر بنانے پر کام کر رہی ہے۔ تنظیم نے دس دیہات میں ۶۰ ہینڈ پمپ نصب کرنے ہیں۔ تنظیم نے ہینڈ پمپ لگانے کے لیے موزوں مقامات کو شناخت کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔

سویراڈولپمنٹ آر گنائزیشن موزوں جگہیں شناخت کرنے کے لیے کیا اقدامات کرے کہ گاؤں کے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے؟

سویراڈولپمنٹ آر گنائزیشن یہ بات کیسے یقینی بنائے کہ خواتین اور غریب افراد سکیم سے زیادہ فائدہ اٹھائیں؟

تیسرا مثال:

فاطما میں ایک دیہی تنظیم (VO) کام کر رہی ہے۔ تنظیم نے خواتین کے ذرائع معاش کے بارے میں ایک تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ کچھ خواتین تربیت میں آنے کو تیار ہیں، لیکن وہ تربیت کے مقام سے بہت دور ہتی ہیں۔ خواتین کو اکیلے تربیت میں آنے کی اجازت نہیں اور گاؤں سے باہر رہنے کی اجازت بھی نہیں۔

دیہی تنظیم تربیتی پروگرام میں خواتین کی شرکت یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کرے؟

## چوتھی مثال:

LSO (مردانہ اور زنانہ) کی مشترکہ میٹنگ کا سوچا گیا ہے تاکہ گاؤں میں ترقیاتی سکیموں پر بات کی جاسکے۔ تاہم، خواتین کو مردوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ دونوں حصوں کے درمیان میں ایک پردہ لٹکا دیا گیا ہے تاکہ خواتین مردار اکین کی بات سن سکیں۔ مرد VSO نے خواتین کے ساتھ ابلاغ کے لیے ایک کو آرڈینیٹر بھی مقرر کیا ہے۔

بحث کریں کہ اس طریقہ کار کے کیا فوائد ہیں؟ خواتین کی شمولیت بڑھانے کے لیے اور کیا اقدامات کیے جاسکتے ہیں؟

## پانچویں مثال:

LSO کی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تاکہ پانی تک خواتین کی رسمائی بہتر بنانے کے لیے مقامی تنظیم / گورنمنٹ کو ایک منصوبے کی تجویز پیش کرنے پر بحث کی جاسکے۔ میٹنگ میں مندرجہ ذیل ایجمنٹ پر بحث کریں:

3

خواتین منصوبے کی پروکیور منٹ اور  
مانیٹر نگ میں کیسے شریک ہوں گی؟

2

عملدرآمد میں خواتین کے کردار کا تعین  
کریں۔

1

سکیم سے خواتین کو کیسے فائدہ پہنچے گا؟

## چھٹی مثال:

ایک ترقیاتی تنظیم بلوچستان کے نواضلاع میں کام کر رہی ہے۔ ترقیاتی تنظیم کی قیادت کو تنظیم میں خواتین کی کم شمولیت کے حوالے سے فکر ہے۔ کئی قسم کے مسائل درپیش ہیں، جیسے خواتین کا گھر بیوکاموں میں مصروفیت کی وجہ سے دیہی تنظیموں میں شمولیت سے ہچکانا، کمیونٹی کے مردوں کا آمادہ نہ ہونا کیونکہ ان کے خیال میں ترقیاتی سرگرمیوں میں خواتین کا کوئی کردار نہیں اور مذہبی قائدین نے این جی اوز کے کام کو اپنی ثقافتی اقدار کے منافی قرار دیا ہے۔

ان تمام چیزوں کے باوجود ایک ترقیاتی تنظیم اپنے کام جاری رکھنے اور خواتین کو ترقیاتی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر مائل کرنے کو تیار ہے۔ سیکرٹری نے دیہی تنظیم کی میٹنگ رکھی ہے جس میں مرد بھی موجود ہوں گے۔

بحث کریں کہ خواتین کی شمولیت کے مسئلے سے نہیں کے لیے دیہی تنظیم کو کیا اقدامات کرنے چاہئیں۔

ساقویں مثال:

دیہی تنظیم کی میٹنگ میں دس میں سے صرف دو خواتین بولتی ہیں اور گروپ کی بقیہ خواتین کو صحبت و حفاظانِ صحبت کے بارے میں معلومات پہنچاتی ہیں۔ دیگر آٹھ اراکین انھیں خاموشی سے سنتی رہتی ہیں۔ میٹنگ سے واپس جاتے ہوئے وہ دوار اکین بات کر رہی تھیں کہ انھیں میٹنگ میں ہونے والی گفتگو کیوں سمجھ نہیں آئی تھی۔

آٹھویں مثال:

دیہی تنظیم کی میٹنگ میں دس میں سے صرف دو خواتین بولتی ہیں اور گروپ کی بقیہ خواتین کو صحبت و حفاظانِ صحبت کے بارے میں معلومات پہنچاتی ہیں۔ دیگر آٹھ اراکین انھیں خاموشی سے سنتی رہتی ہیں۔ دونوں بولنے والی خواتین میٹنگ سے واپس جاتے ہوئے بات کر رہی تھیں کہ خواتین میٹنگ میں حصہ کیوں نہیں لیتی تھیں۔

نوبیں مثال:

کیوں نہیں میں ترقیاتی کام کرنے والی ایک تنظیم خواتین کے ذرائع معاش اور آمدنی میں بہتری لانے کی غرض سے مارکیٹ تک ان کی رسائی بہتر بنانے کا ایک پروجیکٹ تیار کر رہی ہیں۔ ترقیاتی تنظیم نے اس حوالے سے کمیونیٹیز سے معلومات اکٹھی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایک میٹنگ میں بحث کریں کہ کونسی معلومات اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے اور کونسے متعلقہ لوگوں سے مشاورت کرنی چاہیے؟

تسوییں مثال:

ائیشن کمیشن آف پاکستان ووٹروں کی کمر جسٹریشن کے حوالے سے فکر مند ہے۔ جمع کردہ ڈیٹا کے مطابق اب پاکستان میں ووٹروں کی کل تعداد ۱۰۴،۷۹ ملین ہے۔ ۵۴،۵۹ ملین مرد اور ۳۲،۳۲ ملین خواتین۔

ائیشن کمیشن نے خواتین میں ووٹر جسٹریشن کی تعداد کم ہونے کی وجہات سمجھنے اور خواتین ووٹروں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی پالیسی بنانے کے لیے سول سوسائٹی کی تنظیموں کی ایک میٹنگ بلائی ہے۔ آپ کی تنظیم کو بھی میٹنگ میں شرکت کی دعوت ملی ہے کہ آپ خیر پختونخوا / بلوچستان کے حوالے سے تجاویز دیں۔

3

مانیٹرنگ کی حکمتِ عملی تجویز کریں۔

2

پالیسی میں بہتری کا منصوبہ تجویز کریں۔

1

خواتین میں ووٹر جسٹریشن کی تعداد کم ہونے کی وجہات بتائیں۔

## 4.3۔ بلوچستان دیہی ترقی و سماجی تقویت (BRACE) پروگرام میں جینڈر مین سٹریمنگ

مقاصد: اس سیشن کے اختتام تک شرکاء اس قابل ہو جائیں گے کہ:

- ☆ بلوچستان دیہی ترقی و سماجی تقویت (BRACE) پروگرام میں جینڈر مین سٹریمنگ کر سکیں گے
- ☆ اور مزید بہتری کے لئے تجاویز دے سکیں گے

دورانیہ: 30 منٹ

ترتیبی مواد: چارٹ، پرمنیٹ مارکر

طریقہ کار

پہلا مرحلہ

شرکاء سے کہیں کہ وہ پروگرام اور پراجیکٹ کے تجزیے کے لئے چیک لسٹ کی مدد سے بلوچستان دیہی ترقی و سماجی تقویت (BRACE) پروگرام کے مختلف Components کا تجزیہ کریں۔ مثلاً CIF, IGG, TVSt, CPIs

اس کے لئے شرکاء کو 30 منٹ کا وقت دیں اور انہیں ہدایت دیں کہ وہ جو پروگرام منتخب کریں۔ صنفی اعتبار سے اس پروگرام کی کوئی سی تین خصوصیات اور تین خامیاں تحریر کریں اور پھر اس میں بہتری کے لئے تجاویز پیش کریں۔

دوسرा مرحلہ

ہر پرینٹیشن کے بعد اس پر مختصر نگنڈوڈ کریں۔

ٹریزیر شرکاء سے کہیں کہ کیسے خواتین کی رسمائی و اختیار پڑھائیں، فیصلہ سازی میں شمولیت کیسے بڑھائیں اور ان کی کوئی بنیادی صنفی ضروریات اور دیر پا صنفی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔

## 4.4- صنف کے اہم تصورات سے آگاہی (60 منٹ)

### 1- ترقی اور شمولیت

ٹریزشہر کا کوتراقی اور شمولیت کی تعریف سے آگاہ کریں۔


**ترقی کی تعریف:**

کسی فرد اور معاشرے کا معاشی اور سماجی طور پر آگے بڑھنے کے عمل کوتراقی کہتے ہیں۔

**شمولیت:**

کسی عمل یا سرگرمی کے حصہ دار بننے کو شمولیت کہتے ہیں۔

شرکا کو تصویری خاکوں کی مدد سمجھائیں اور کہ عورتوں کی شمولیت داری گھریلو سطح سے لے کر مقامی، صوبائی اور قومی بلکہ بین الاقوامی سطح لازم جزو ہے تا کہ عورتیں ہر سطح کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں اور اس طرح سے صنفی انصاف اور برابری پروان چڑھے گی۔ خصوصاً اس سے ہمارے دیہی علاقوں کی حالت بدالے گی جس کی سب سے بہتر مثال یہ ہے کہ خواتین کو زیادہ زیادہ مقامی سطح پر بننے والے تنظیمی ڈھانچے ایل ایس او، وی او، سی اور کامبر بننا چاہئے کیونکہ ایسے فورمز سے ہی عورتوں کی قاعدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاسکتا ہے۔



## 2۔ رسائی اور اختیار

رسائی: کسی موقع یا مقصد تک پہنچنے کے عمل کو رسائی کہتے ہیں۔

اختیار: فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ دار بننا اور اس پر اثر انداز ہونے کو اختیار کہتے ہیں۔

شرکاء کو دینے گئے تصاویری خاکر کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور نیچے دینے گئے سوالات کی روشنی میں سیشن کو آگے بڑھائیں تاکہ شرکاء رسائی اور اختیار کے درمیان بنیادی فرق کو جان سکیں۔

عورتوں کو ہر قسم کی فیصلہ سازی میں برابر کا حصہ دار اور اختیار ہونا چاہئے



مرد حضرات منڈیوں سے اشیاء خوردنو ش و  
دوسرے اجناس کی خرید و فروخت کرتے ہیں

عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں

## رول پلے

پہلا مرحلہ:

ایک عورت اپنی زمین پر کاشت کاری کرتی ہے۔ فصل اگاتی ہے اور اس کی کٹائی کا کام بھی خود کرتی ہے۔

دوسرा مرحلہ:

فصل کی کٹائی کمل ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر انواع بیچنے کے لئے اسے بازار لے جاتا ہے اور اس کی آمدنی خود اپنے اختیار میں رکھتا ہے۔

تیسرا مرحلہ:

اچانک پریشانی کی وجہ سے اس کا شوہر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ زمین بیچ کر کاروبار کر لیں لیکن عورت اس کے لئے راضی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اس کو شوہر زمین میں بیچ کر شہر چلا جاتا ہے۔

سوالات:

1۔ یہ کردار ادا کرتے ہوئے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟

2۔ کیا واقعی اس صورتحال کا سامنا ہم سب کو ہے؟

ایسے بہت سے وسائل ہیں جن تک عورتوں کی رسائی ہے، مثلاً زرعی زمینوں پر کاشت کاری کرنا، ماہی گیری کے حوالے سے جھینگوں کی صفائی کرنا یا جال بنانا، کپڑے کی بنائی وغیرہ۔ ہم اس حقیقت سے بخوبی وافق ہیں کہ عورتیں ان کاموں میں پوری طرح شامل ہوتی ہیں اور سخت محنت سے انہیں انعام تک پہنچاتی ہیں۔ اس کے باوجود انہیں ان وسائل پر کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں جو عورتوں کے ساتھ یک منفی رویہ ہے۔ مثلاً عورت اپنے ہی گھر پر کوئی اختیار نہیں رکھتی ہے جس میں کوہ اپنی پوری زندگی گزارتی ہے یعنی اگر گھر کی خرید و فروخت وغیرہ کا مرحلہ درپیش آجائے تو عورت کو فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ ان تمام وسائل پر فیصلہ سازی کے لئے مردوں کا حصہ اختیار اور عورتوں کے ساتھ غیر مساوی رویہ معاشرے کے فرسودہ نظام کی پیداوار ہیں جبکہ اس کا حقیقت اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں مرد حضرات منڈیوں سے اشیاء خوردنوش و دوسرا اجتناس کی خرید و فروخت کرتے ہیں عورتوں کو ہر قسم کی فیصلہ سازی میں برابر کا حصہ دار اور اختیار ہونا چاہئے۔

### 3۔ حالت اور حیثیت

شرکاء کو دیئے گئے تصویروں کے ذریعے سے حالت اور حیثیت کا فرق بتائیں جس کے لئے دورول پلے کروائیں

1۔ پہلا حالت کی تبدیلی پر

2۔ دوسرا حیثیت کی تبدیلی پر

اس بات پر زیادہ زور دیں کہ حیثیت کا تبدیل ہونا زیادہ ضروری ہے اگرچہ حالت کا تبدیل ہونا بھی ضروری ہے۔  
اور آخر میں مندرجہ ذیل سوالات کے ذریعے سیشن کو اختتام تک لے کر جائیں۔



## حالت کی تبدیلی۔ رول پلے

پہلا مرحلہ: ایک لڑکی بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کرتی ہے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لیکن خاندان کے بزرگ اسے اجازت نہیں دیتے۔

دوسرा مرحلہ: وہ اپنے والدین کو مختلف دلائل سے آمادہ کرتی ہے اور اپنی تعلیم جاری رکھتی ہے۔ یوں وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے۔

تیسرا مرحلہ: ڈاکٹر بننے کے بعد اپنے گاؤں ہی میں اپنے لوگوں کے لئے کلینک کھول کر ان کا اعلان کرتی ہے۔

## حیثیت کی تبدیلی۔ رول پلے

پہلا مرحلہ: قومی اسمبلی کا ایک اجلاس ہو رہا ہے۔ اس میں تمام اراکین موجود ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔

دوسرा مرحلہ: مردار اراکین ترقیاتی منصوبوں پر بحث کر رہے ہیں اور ان کے عمل درآمد پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔

تیسرا مرحلہ: اس بحث و مباحثے میں خواتین اراکین ترقیاتی منصوبوں اور دیگر ترقیاتی امور کی فیصلہ سازی میں مکمل طور شریک نظر آ رہی ہیں۔

## سوالات:

1- یہ سرگرمی کرتے وقت کیا محسوس ہوا؟


2- کیا یہ سرگرمی کرتے وقت مشکلات پیش آئیں؟

3- کیا ہم سب یہ تبدیلی چاہتے ہیں؟

## 4۔ صنفی برابری اور انصاف


مرحلہ 1: شر کا کوئی نیچے دی گئی تصویر دکھا کر پوچھیں کہ انھیں کیا نظر آ رہا ہے؟

برابری کا مطلب انصاف نہیں



برابری

النصاف



برابری

النصاف

مرحلہ 2:

- شرکا کے خیالات معلوم کریں۔ ہر ایک کو رائے دینے پر مائل کریں۔

مرحلہ 3:

- مندرجہ ذیل نکات کی روشنی میں تصویر کی وضاحت کریں:
  - پہلی تصویر ”مساوات“ میں سب کو مساوی وسائل (ایک سٹینڈ) دیا گیا ہے تاکہ وہ کر کٹ مجھ دیکھ سکیں۔
  - تاہم سبھی لڑکے ان وسائل سے مساوی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ سب سے لمبے قدوالے لڑکے کو سٹینڈ کی ضرورت نہیں تھی لیکن اُسے دے دیا گیا، سب سے چھوٹا لڑکا اب بھی مجھ نہیں دیکھ سکتا، اور اُسے مزید وسائل درکار ہیں۔
  - دوسری تصویر میں سب سے چھوٹے لڑکے کے پاس دو سٹینڈ ہیں، لہذا وہ مجھ دیکھ سکتا ہے اور سب سے لمبے لڑکے کو سٹینڈ کی ضرورت نہیں اور وہ اس کے باوجود مجھ دیکھ سکتا ہے۔
  - دوسری تصویر میں وسائل نہیں بڑھے بلکہ تقسیم موزوں طریقے سے کی گئی ہے۔ نیتختا ہر کوئی مستفید ہو رہا ہے۔

مرحلہ 4:

- شرکا سے کہیں کہ وہ اس تصویر کا اطلاق خواتین اور مردوں پر کریں۔ شرکا کو بتائیں کہ جب ہم خواتین کی شمولیت یا ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اختیارات یا وسائل کسی سے لے کر دوسرے کو دے دیے جائیں؛ بلکہ اس کا مطلب ہے کہ خواتین پچھے رہ گئی ہیں لہذا انھیں مزید وسائل، اختیارات اور توجہ درکار ہے تاکہ وہ اپنی حیثیت اور ترقی میں اضافہ کر سکیں۔

## جنسی ہراسیت سے تحفظ کا قانون 2010 (ضابطہ اخلاق)

مقاصد: اس سیشن کے اختتام تک

- ☆ شرکاء جنسی ہراسیت کی مختلف اقسام سے آگاہ ہوں جائیں گے
- ☆ شرکاء جنسی ہراست سے تحفظ کے قانون سے آگاہ ہوں جائیں گے

دورانیہ: ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ

ترمیتی مواد: واٹک بورڈ، چارٹ، واٹک بورڈ مارکر، پرمانٹ مارکر، تھمب پن، فلیش کارڈ، ڈسٹر، تصاویر

## ضابطہ اخلاق



پاکستان کی حکومت نے 2010 میں جنسی ہراسانی کے خلاف 2 قوانین بنائیں۔

1- کام کرنے کی جگہ پر جنسی ہراسانی سے تحفظ کا قانون 2010

2- فوجداری قانون ترمیمی بل 2009 کے ذریعے ترمیم کسی ادارے میں کسی بھی ملازم کی طرف سے جنسی ہراسانی کا عمل ناقابل قبول ہونا چاہیے۔ اس روئے یعنی جنسی ہراسانی کو کچھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ ”کوئی ناپسندیدہ جنسی پیش قدمی، جنسی خواہش کا اظہار کرنا یا کوئی دوسرا زبانی یا تحریری فعل یا جسمانی رویہ جس کی نوعیت جنسی ہو، یا جنسی طور پر تحقیری روئے جو کارکردگی میں مداخلت کا باعث بنیں یا ڈرانے دھنکانے کی فضا پیدا کریں، جو کام کے ماحول کو معانداناہ اور ناگوار بنادیں، یا اس طرح کی فرماںش پوری نہ کرنے پر شکایت کننده کیلئے کام کو تکلیف دہ بنادیا نو کری کو ایسی فرماںش سے مشروط کر دینا۔

یہ ضابطہ آپ کے ادارے کے لئے ”کام کرنے کی جگہ پر جنسی ہراسانی سے تحفظ کے قانون“ کے حوالے سے تنظیمی ضروریات کی نشاندہی کرتا ہے۔

اس ضابطہ اخلاق کا مقصد آپ کے ادارے میں کام کے ماحول کو مرداور عورت دونوں کے لئے بہتر بنانا ہے تاکہ وہ اپنا کام عزت نفس کے تحفظ کے ساتھ انجام دے سکیں، اپنے کام سے مکمل مطمئن ہوں اور ایک مہذب اور باہمی عزت سے بھر پور کام کے ماحول کے ثبت اثرات کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کے مل بوتے یا اپنے ادارے کی پیداواری استعداد کو بڑھا سکیں۔



لیرل لوفر



چاچو چسکورہ



لپا اسٹاد



کھرچو



نکما جملے باز



دوست دشمن



شاہ باشاہ



بدھو بدمعاش

ہو چھابوس

اس ضابطے کو نافذ کرنے کا طریقہ کار بہت سادہ اور آسان ہے اور اس پر کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ ادارے کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کے ماحول کو ہر کام کرنے والے فرد کیلئے باعزت بنائیں اور شکایات کی صورت میں منتظمین 3 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دیں جو شکایات پر نظر رکھے۔ کمیٹی کے ممبران شکایات کے مطابق جہاں مسئلہ ہوا سے غیر رسمی اور رازدارانہ انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا شکایت کنندہ چاہے تو اسی کمیٹی کے پاس باقاعدہ لکھ کر شکایت بھی کر سکتا ہے۔ اس صورت میں باقاعدہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ کمیٹی اپنی تفتیش کے متأجح اور اسکے مطابق تجویز کردہ سزا سے مجاز افسر یا ادارے کے سربراہ کو آگاہ کرے گی اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔

**منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ:**

1- اس ضابطے اخلاق کو اپنی تنظیمی پالیسی کا حصہ بنائیں اور نافذ کریں۔

2- تین افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دیں جس میں کم از کم ایک عورت ضرور شامل ہو (کمیٹی کے ارکان ادارے کے باہر سے بھی لئے جاسکتے ہیں)۔ تمام ملازمین کو کمیٹی ممبران کے نام معلوم ہونے چاہئیں۔

3- ضابطے اخلاق سے ہر ملازم واقف ہونا چاہئے۔ (انہیں اس کی نقل دے دی جائے یا اسے ادارے میں دیوار پر چسپا کر دیا جائے)

## صنف سے متعلقہ اصطلاحات کی فرہنگ

**ڈیپارٹمنٹ فار ائٹر نیشنل ڈیلپمٹ کے ”جیندر مینوں“ (۲۰۰۲ء) سے مأخوذه**

<p>مردوں اور خواتین کے درمیانی حیاتیاتی فرق، جیسے خواتین بچے کو جنم دیتی ہیں اور مرد پر مہیا کرتے ہیں۔ جنسی کردار ہر جگہ پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔</p>	<b>جنس</b>  <b>صنف (جیندر)</b>
<p>مردوں اور خواتین کے درمیان سماجی تعلقات سے پیدا ہونے والے فرق۔ اس سے مراد مردوں اور خواتین، لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان تعلق ہے، اور اس کا معاشرتی اظہار بھی۔ صنفی کردار جگہ اور وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔</p>	<b>صنف کے تصور کو عام کرنا</b>  <b>Gender Mainstreaming</b>
<p>یہ بات یقینی بنانے کا عمل کہ خواتین اور مردوں کو وسائل، ترقی کے فوائد اور فیصلہ سازی تک رسائی اور ان پر کنٹرول حاصل ہو (ترقی، عمل، پروجیکٹس، پروگراموں یا پالیسی کے تمام مراحل پر)۔</p>	<b>صنف سے لا علمی</b>  <b>Gender-blind</b>
<p>یہ بات ماننے سے انکار کہ صنف پروجیکٹس اور پالیسیوں پر اثر انداز ہونے والے سماجی متاثر ہو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صنف سے لا علمی والے طریقے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ صنف سے پروجیکٹس، پروگراموں یا پالیسی پر اثر نہیں پڑتا۔</p>	<b>صنفی آگاہی</b>  <b>Gender Awareness</b>
<p>یہ تفہیم کہ معاشرے میں سیکھے ہوئے روئے کی بنیاد پر خواتین اور مردوں کے درمیان فرق موجود ہیں جس سے وسائل تک رسائی اور کنٹرول پر اثر پڑتا ہے۔ اس آگاہی کو پروجیکٹس، پروگراموں اور پالیسیوں میں صنفی تجویزیہ کرتے وقت لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔</p>	<b>صنفی حساسیت</b>  <b>Gender Sensitivity</b>
<p>موجودہ صنفی امتیازات، وسائل اور ناصافیوں کو سمجھنے اور اجاگر کرنے کی صلاحیت، اور انھیں حکمت عملیوں اور اقدامات میں شامل کرنا۔</p>	<b>صنفی برابری</b>  <b>Gender Equality</b>

<p>خواتین اور مردوں کے درمیان فوائد اور ذمہ داروں کی تقسیم کرتے وقت انصاف سے کام لیتے۔ یہ تصور تسلیم کرتا ہے کہ خواتین اور مرد مختلف ضروریات اور اختیارات رکھتے ہیں اور ان فرقوں کو شناخت کرنا اور ان سے ایسے نہنما ضروری ہے کہ جنسوں کے درمیان عدم توازن ٹھیک ہو جائے۔</p>	<p><b>صنfi انصاف</b> Gender Equity</p>
<p>صنfi جائزہ یا تجزیہ معلومات کو جانچ کا ایک عمل ہے تاکہ خواتین اور مردوں کو ترقی کے فوائد اور وسائل مؤثر اور منصافانہ طور پر ملنا یقینی بنایا جاسکے۔ نیز ترقیاتی کاموں کے کسی بھی منفی اثرات کی پیش بینی کی اور ان سے بچا جائے جو خواتین یا صنfi تعلقات پر پڑ سکتے ہیں۔ صنfi جائزہ لینے کے لیے مختلف قسم کے ٹولز اور فریم ورک استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں صنfi کے متعلق معلومات اکٹھی اور پروسیس کرنے کا ایک طریقہ کار بھی شامل ہے۔</p>	<p><b>صنfi جائزہ</b> Gender Analysis</p>
<p>صنfi جائزے کے لیے تمام ڈیٹا جنس کے اعتبار سے الگ الگ ہونا چاہیے تاکہ عورتوں اور مردوں پر پڑنے والے اثرات معلوم کیے جاسکیں۔</p>	<p><b>صنfi کی بنیاد پر الگ الگ کیا گیا ڈیٹا</b></p>
<p>اس سے ان ترقیاتی پروگراموں اور پروجیکٹس کی منصوبہ سازی کا عمل مراد ہے جو صنfi لحاظ سے حساس ہوں اور جن میں مختلف صنfi کرداروں اور مردوں اور خواتین کی صنfi ضروریات کو سامنے رکھنا بلکہ غیر مساوی تعلقات کو چیلنج کرنے کے لیے اہم پہلوؤں کی نشاندہی کرنا بھی شامل ہے۔</p>	<p><b>صنfi منصوبہ سازی</b></p>
<p>خصوصی معاشرے / کمیونٹی یا خصوصی گروپ میں موجود طور طریقے جو تعین کرتے ہیں کہ کوئی سرگرمیاں، کام اور ذمہ داریاں مردانہ ہیں کوئی زنانہ۔ صنfi کردار عمر، طبقہ، نسل، مذہبی اور جغرافیائی، اقتصادی اور سیاسی ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ صنfi کرداروں میں تبدیلیاں اکثر معاشری، فطری یا سیاسی حالات میں تبدیلیوں (مشمول ترقیاتی کاؤشیں) کے نتیجے میں واقع ہوتی ہیں۔ مرد اور خواتین دونوں ہی معاشرے میں کئی قسم کے کردار ادا کرتے ہیں۔</p>	<p><b>صنfi ضروریات</b></p>

<p>پیداواری، تولیدی اور معاشرتی کردار و سائل کے استعمال کا تقاضا کرتے ہیں۔ عمومی طور پر خواتین اور مردوں سائل تک رسائی (کسی چیز کو استعمال میں لانے کا موقعہ) اور سائل پر کنٹرول (اسے استعمال میں لانے کی امیت) کی مختلف سطحیں رکھتے ہیں۔</p>	<p>رسائی اور کنٹرول</p>
<p>وسائل اقتصادی نوعیت کے ہو سکتے ہیں: جیسے زمین اور آلات؛ سیاسی: جیسے نمائندگی، قیادت اور قانونی ادارے؛ سماجی: جیسے بچوں کی دیکھ بھال، خاندانی منصوبہ بندی، تعلیم؛ اور وقت بھی نہایت اہم لیکن اکثر کمیاب ذرائع میں شامل ہوتا ہے۔</p>	<p>وسائل</p>
<p>Gender and Women in Development (WID) کو کبھی کبھی ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن دونوں میں بنیادی فرق پائے جاتے ہیں۔ WID طریقہ کار ۱۹۷۰ء کی دہائی کے دوران وضع کیا گیا جس کا مقصد خواتین کو ترقی کے عمل کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات اور پالیسیاں ڈیزاں کرنا تھا۔ GAD طریقہ کار ۱۹۸۰ء کی دہائی میں سامنے آیا جس کا مقصد سماجی، اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے مردوں اور عورتوں کے درمیان نابرابری کو شرط اول کے طور پر ختم کرنا تھا تاکہ عوام پر مرکوز ترقی حاصل کی جاسکے۔ دونوں طریقے آج بھی استعمال اور لاگو ہوتے ہیں۔</p>	<p>ترقی میں خواتین کا کردار اور صنف و ترقی WID and GAD</p>
<p>غیر رسمی انداز میں سکھنے کا ایک عمل جو مخصوص اقدار اور رویے پختہ کرتا ہے۔ سماجی میل جوں ایک متواتر اور زندگی بھر جاری رہنے والا عمل ہے اور خاندان سے شروع ہو کر متعدد ادارے صنف پر مبنی طرز عمل کو جاری رکھنے میں مدد گار ہوتے ہیں۔ اکثر سماجی میل جوں کا عمل بہت لطیف ہوتا ہے اور ہم اس کے عملی اثرات کو تبھی محسوس کرتے ہیں جب اس کی منظور شدہ اقدار کے خلاف جائیں۔</p>	<p>سماجی میل جوں Socialization</p>
<p>تصورات، عقائد اور اقدار کا ایک نمایاں انداز جو معاشرے یا معاشرے کے اندر ایک گروپ کی زندگی اور تعلقات کو مخصوص رنگ دیتا ہے۔</p>	<p>ثقافت Culture</p>
<p>افراد کے ساتھ ان کی صنف کی بنیاد پر منظم اور ناروا سلوک جوان کے حقوق، موضع یا وسائل دینے کی نفی کرتا ہے۔ خواتین کی اختیار تک رسائی اور سائل پر کنٹرول میں فرق تمام شعبوں (یعنی گھر، کمیونٹی، مارکیٹ اور ریاست) میں امتیاز کی بنیاد ہے۔</p>	<p>صنفی امتیاز Gender Discrimination</p>

<p>سماجی لحاظ سے متعین ہونے والے تصورات اور طور طریقے بتاتے ہیں کہ خواتین اور مردوں کے لیے کونسے کردار اور سرگرمیاں 'موزوں' ہیں۔ صنفی بنیادوں پر تقسیم محنت کو اگرچہ فطری اور ناقابل تبدیل مانا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ تصورات اور روان ج معاشرے کی پیداوار ہوتے ہیں۔</p>	<p><b>صنفی بنیادوں پر تقسیم محنت</b> Gender Division of Labour</p>
<p>منظوم معاشرتی ڈھانچے جو مردانہ جسمانی، سماجی اور اقتصادی طاقت کو عورت پر منظم طریقے سے غالب کر دیتے ہیں۔ پدر سری نظام خواتین کو زندگی کے اہم فیصلوں اور امکانات سے دور رکھنے کے ذریعے مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔</p>	<p><b>پدر سری نظام</b> Patriarchy</p>
<p>صنف پر مبنی اختیارات کو بدلنے کا عمل جس میں افراد یا گروپ خواتین کی دست غیری سے آگاہی پیدا کرتے اور اسے چیخنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی باختیار ہونے کی تعریف ایک ایسی قابلیت کے طور پر کی جاتی ہے جس کے ذریعے مردی کے فیصلے کیے جائیں، لیکن اس میں ان فیصلوں سے بننے والی صورت حال کو شکل دینے کی قابلیت بھی شامل ہونی چاہیے۔ جو چیز ایک تناظر میں با اختیار ہنانے والی معلوم ہو شاید دوسرے تناظر میں نہ ہو۔</p>	<p><b>خواتین کو با اختیار بنانا</b> Women Empowerment</p>
<p>خواتین اور مردوں کے درمیان اختیارات پر مبنی تعلقات جن میں عموماً خواتین کو نقصان ہوتا ہے۔ ان صنفی مراتب کو اکثر 'فطری' مانا جاتا ہے لیکن اصل میں یہ سماجی طور پر متعین، شفافت پر مبنی اور وقت کے ساتھ تبدیلی سے عبارت ہوتے ہیں۔ انہیں مختلف قسم کے صنفی روایوں میں دیکھا جاسکتا ہے، جیسے محنت اور وسائل کی تقسیم، صنف تصورات کے تحت بننے والے نظریات، جیسے خواتین اور مردوں کا قابل قبول اور مناسب طرز عمل۔</p>	<p><b>صنفی کردار</b> Gender Relations</p>
<p>صنفی بنیادوں پر تشدد سے مراد کوئی بھی ایسا فعل ہے جس کے نتیجے میں کسی کو صرف عورت یا مرد ہونے کی وجہ سے جسمانی، نفسیاتی، جنسی اور معاشری ضرر پہنچایا جائے۔ اس قسم کا فعل آزادی سے محرومی اور منفی اثرات کا باعث بنتا ہے۔ یہ تشدد گھر کے اندر یا باہر بھی ہو سکتا ہے (GBV قانون: ۲۰۰۸: ۵۹)</p>	<p><b>صنفی بنیادوں پر تشدد</b> Gender Based Violence</p>
<p>مردانگی سے مراد وہ مختلف حوالے ہیں جو مرد ہونے کو سماجی طور پر متعین کرتے ہیں۔ اس تصور کا تعلق تاریخی اور ثقافتی تناظر میں ہوتا ہے۔ مثلاً غالب سماجی طبقے سے منسوب مردانگی کا تصور (اقتصادی، ثقافتی اور جنسی رجحان)۔</p>	<p><b>مردانگی</b> Masculinity</p>

## ٹریننگ کا جائزہ

برائے مہربانی نیچے دیئے گئے سیشن کے سامنے (✓) نشان لگا کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔

			عنوان	سیشن
			تعارف	سیشن نمبر 1
			صنف کیا ہے؟	سیشن نمبر 2
			صنفی اعداد و شمار	سیشن نمبر 3
			صنف اور ترقی	سیشن نمبر 4
			جنی ہراسیت سے تحفظ کا قانون 2010 (ضابطہ اخلاق)	سیشن نمبر 5





Balochistan Rural Development and Community Empowerment (BRACE) Programme is supported by the European Union (EU) and being implemented in close collaboration with the Local Government and Rural Development (LG&RD) Department of the Government of Balochistan (GoB). Grant component of the programme is being implemented by Rural Support Programmes Network (RSPN), National Rural Support Programme (NRSP) and Balochistan Rural Support Programme (BRSP) in nine districts of Balochistan, namely Jhal Magsi, Kech, Khuzdar, Killa Abdullah, Loralai, Pishin, Duki, Washuk and Zhob. The Programme is being technically supported by Human Dynamics (HD), an Austrian company that will support GoB in fostering an enabling environment for strengthening the capacities of local authorities to manage and involve communities in the statutory local public sector planning, financing and implementation processes. The Programme also has a Public Finance Management (PFM) component through a service contract by EU with Oxford Policy Management (OPM) which will work closely with HD to assist the GoB in costing and funding the community-led development policy framework through clearly defined fiscal and regulatory frameworks, budgetary processes and commitments reflected in a multi-annual budgetary framework and defined institutional arrangements.

The programme focuses on empowering citizens and communities and providing them with the means to implement community-driven socio-economic development interventions. It will also amplify their voice and capability to influence public policy decision-making through active engagement with local authorities for quality, inclusive and equitable service delivery, and civic-oversight. Under BRACE Programme, 1.9 million Pakistani citizens of 300,000 poor rural households in 249 union councils (UCs) will be mobilised and organised into a network of people's own institutions: 19,129 Community Organisations (COs); 3,103 Village Organisations (VOs); 249 Local Support Organisations (LSOs) and 31 LSO Networks at tehsil level and eight LSO Networks at district level.



"This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Rural Support Programmes Network (RSPN) and do not necessarily reflect the views of the European Union."

More information about the European Union is available on:

Web: [eeas.europa.eu/delegations/pakistan\\_en](http://eeas.europa.eu/delegations/pakistan_en)

Facebook: European Union in Pakistan

Twitter: EUPakistan



IRM Complex, 3<sup>rd</sup> Floor, Plot # 7, Sunrise Avenue (off Park Road),  
Near COMSATS University, Islamabad, Pakistan  
Phone: +92-51-8491270-99, Fax: +92-51-8351791  
Facebook: [www.facebook.com/BRACEProgramme](https://www.facebook.com/BRACEProgramme)